

**CONFIDENTIAL**

Not to be released for publication in the press before presentation to the Assembly

**PROVINCIAL ASSEMBLY OF THE PUNJAB**

**REPORT OF THE COMMITTEE ON PRIVILEGES REGARDING  
PRIVILEGE MOTION NO. 24 OF 2019 MOVED BY SYED ALI HAIDER  
GILANI, MPA (PP-211)**

Privilege Motion No. 24 of 2019 moved by Syed Ali Haider Gilani, MPA (PP-211) (Annexed) was referred to the Committee on Privileges on 18 November 2019. The Committee considered the Privilege Motion in its meetings held on 10 December 2019, 09 July, 14 September 2020 and 08 November 2021.

2. The following attended the instant meeting: –


|    |   |          |
|----|---|----------|
| 1. | Mr Ali Akhtar, MPA (PP-99)                        | Chairman |
| 2. | Mr Muhammad Arshad Chaudhary, MPA (PP-34)         | Member   |
| 3. | Khawaja Muhammad Daud Sulamani, MPA (PP-285)      | Member   |
| 4. | Mian Shafi Muhammad, MPA (PP-258)                 | Member   |
| 5. | Ms Sadia Sohail Rana, MPA (W-313)                 | Member   |
| 6. | Mian Muhammad Farrukh Mumtaz Maneka, MPA (PP-191) | Member   |
| 7. | Choudhary Ashraf Ali, MPA (PP-57)                 | Member   |

3. Barrister Mudassar Ishaq, Director, Law & Parliamentary Affairs Department, Ms Maleeha Rashid, Additional Secretary (Police), Home Department and Sahibzada Muhammad Shehzad Sultan, Additional Inspector General (Operations), office of the Provincial Police Officer, Punjab attended the meeting as Expert Advisors. Rai Muhammad Saleem, Deputy Secretary, Provincial Assembly of the Punjab functioned as Secretary to the Committee.

4. The Chairman, Committee on Privileges briefed the Committee that Mover had informed that the accused officer and officials concerned had tendered unconditional apology to him, therefore, he did not want to press his Privilege Motion.

5. The Committee, therefore, decided to recommend the Assembly that the subject Privilege Motion may be treated as disposed of, being not pressed by the Mover.

Lahore  
08 November 2021

  
**ALI AKHTAR**  
Chairman  
Committee on Privileges

Lahore  
08 November 2021

  
**(MUHAMMAD KHAN BHATTI)**  
Secretary

سولہواں اجلاس

## صوبائی اسمبلی پنجاب

## تحریک استحقاق نمبر 24 بابت 2019

سید علی حیدر گیلانی:

میں حال ہی میں وقوع پذیر ہونے والے ایک اہم اور فوری مسئلہ کو زیر بحث لانے کیلئے تحریک استحقاق پیش کرتا ہوں جو اسمبلی کی فوری دخل اندازی کا متقاضی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ مورخہ 8 نومبر 2019 کو چیئر مین پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری کا مظفر گڑھ میں جلسہ تھا، اس میں شرکت کے لئے جب میں اپنے کارکنوں کے ہمراہ مظفر گڑھ پہنچا تو پولیس نے مجھے اور میرے کارکنوں کو آگے جانے سے روک دیا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں ایم پی اے ہوں اور جناب چیئر مین کے جلسہ میں شرکت کے لئے جانا ہے لہذا آپ رکاوٹیں نہ ڈالیں اور ہمیں جانے دیں لیکن وہاں پر موجود پولیس کے افسران بغدر ہے کہ نہ آپ جاسکتے ہیں اور نہ آپ کے ورکر ہی جاسکتے ہیں۔ جب یہ معاملہ ڈی پی او مظفر گڑھ کے نوٹس میں لایا گیا تو انہوں نے اپنے ماتحت لوگوں کو حکم دیا کہ ایم پی اے ہے تو ہم کیا کریں آپ اسے اٹھا کر گاڑی میں پھینکیں اور ان کے ساتھ موجود لوگوں کو بھی سبق سکھائیں بس ڈی پی او کے حکم جاری کرنے کی دیر تھی کہ پولیس نے نہ صرف مجھ سے بد تمیزی کی اور دھکے دیئے بلکہ میرے ساتھ موجود ورکرز پر بے پناہ تشدد بھی کیا۔ جب کوئی ایسا معاملہ کسی سینئر آفیسر کے نوٹس میں آتا ہے تو وہ اسے سلجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن موصوف ڈی پی او نے اپنی وردی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ انتہائی سنگین قدم اٹھوایا جس سے صاف واضح تھا کہ اس کے دل میں منتخب رکن اسمبلی کا کتنا احترام ہے۔ ڈی پی او کے اس بھیانک اور مکروہ رویے سے نہ صرف میرا بلکہ پورے ایوان کا استحقاق مجروح ہوا ہے۔ لہذا میری اس تحریک کو ایوان میں پیش کرنے کی اجازت دی جائے اور اسے باضابطہ قرار دیتے ہوئے مجلس استحقاقات کے سپرد کیا جائے۔

محمد خان بھٹی

سیکرٹری

لاہور

11 نومبر 2019

18 نومبر 2019